



”جس نہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا : ”جس نہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے“ [حسن] [اسے ابوداؤد اور احمد نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم بتا رہے ہیں کہ جس نہ کسی کافر، فاسق یا صالح قوم کی مشابہت اپنائی، مثلاً عقائد، عبادتوں یا عادتوں سے جڑا ہوا کوئی ایسا کام کیا، جو ان کی خصوصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، تو اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا کیوں کہ ظاہری امور میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے باطنی مشابہت کے دروازے کھلتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی قوم سے مشابہت اس سے مرعوبیت کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی اس سے محبت، اس کی تعظیم اور اس کی جانب میلان کا سبب بن جاتی ہے اور بسا اوقات اس کا نتیجہ اس سے باطنی اور عبادت تک میں مشابہت کے طور پر سامنے آتا ہے اللہ کی پناہ ہے

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/5353>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

